

Num

Chapter 25

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיָּשָׁב	יִשְׂרָאֵל	בְּשָׂטִים	וַיָּחֵל	הָעָם	לְזָנוּת	אֶל-	בְּנוֹת	מוֹאָב:
	اور-بسا	اسرائیل	شطیم-میں	اور-شروع-کیا	قوم	زنا-کرنا	ساتھ-	بیٹیوں	موآب
	H3427	H3478	H7851		H2181	H0413	H1323	H4124	

لگے۔ کرنے زناکاری سے عورتوں موآبی مرد اسرائیلی تو تھے رہے رہ میں شطیم اسرائیلی جب

2	וַתִּקְרָא	לָעָם	לְזָבְחֵי	אֵלֹהֵיהֶן	וַיֹּאכְלֵן	הָעָם	וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ	לְאֵלֹהֵיהֶן:
	اور-بلایا	قوم-کو	قربانیوں-کی-طرف	ان-کے-دیوتاؤں	اور-کھایا	قوم	اور-سجدہ-کیا	ان-کے-دیوتاؤں
	H7121		H2077	H0430	H0398		H7812	H0430

کے کر قبول دعوت اسرائیلی لگیں۔ دینے دعوت کی ہونے شریک کو اسرائیلیوں وقت کرتے پیش قربانیاں کو دیوتاؤں اپنے عورتیں موآبی کہ ہوا ایسا یہ لگے۔ کرنے سجدہ کو دیوتاؤں اور کھانے سے قربانیوں

3	וַיִּצְמַד	יִשְׂרָאֵל	פְּעוּר־לְבַעַל	וַיַּחֲרֶ-	אָף	יְהוָה	בְּיִשְׂרָאֵל:
	اور-جڑا	اسرائیل	بعل-فعور-سے	اور-بھڑکا-	غضب	یہوواہ	اسرائیل-پر
	H6775	H3478	H1187	H2734	H0639	H3068	H3478

پڑا۔ ان پر ان غضب کا رب اور لگے، کرنے پوجا کی فعور بعل بنام دیوتا موآبی اسرائیلی سے طریقے اس

4	וַיֹּאמֶר	יְהוָה	אֶל-	מֹשֶׁה	קַח	אֶת-	כָּל-	רֵאשֵׁי	הָעָם	וְהוֹקַע	אוֹתָם	לַיהוָה
	اور-کہا	یہوواہ	سے-	موسیٰ	لے	کو-	سارے-	سرداروں	قوم	اور-لٹکا	انہیں	یہوواہ-کے-لئے
	H0559	H3068	H0413	H4872	H3947	H0853	H3605			H3363	H0853	H3068

ننڊ	הַשָּׂמַיִם	וַיֹּשֶׁב	חֲרוֹן	אָף-	יְהוָה	מִיִּשְׂרָאֵל:
سامنے	سورج	اور-لوٹے-گا	بھڑکتا-ہوا	غضب-	یہوواہ	اسرائیل-سے
H5048	H8121	H7725	H2740	H0639	H3068	H3478

غضب سے پر اسرائیلیوں کا رب ورنہ لٹکا، سامنے کے رب میں روشنی کی سورج کر دے موت سزائے کو راہنماؤں تمام کے قوم اس کہا، سے موسیٰ نے اُس گا۔ نلے نہیں

5	וַיֹּאמֶר	מֹשֶׁה	אֶל-	שַׁפְטֵי	יִשְׂרָאֵל	הַרְגוּ	אִישׁ	אֶחָיו	הַנִּצְמָדִים	פְּעוּר־לְבַעַל
	اور-کہا	موسیٰ	سے-	منصفوں	اسرائیل	مارو	ہر-ایک	اپنے-بھائیوں	جڑے-ہوئے	بعل-فعور-سے
	H0559	H4872	H0413	H8199	H3478	H2026	H0376	H0376	H6775	H1187

میں پوجا کی دیوتا فعور بعل جو دے مار سے جان کو آدمیوں ان اپنے ایک ہر سے میں تم کہ ہے لازم کہا، سے قاضیوں کے اسرائیل نے موسیٰ چنانچہ ہیں۔ ہوئے شریک

6	וְהָיָה	אִישׁ	מִבְנֵי	יִשְׂרָאֵל	כָּא	וַיִּקְרַב	אֶל-	אָחָיו	אֶת-	הַמְדַיִנִּית	לְעִינֵי
	اور-دیکھو	آدمی	بنی-سے	اسرائیل	آیا	اور-لایا	پاس-	اپنے-بھائیوں	کو-	مدیانی-عورت	آنکھوں-میں
	H2009	H0376	H3478	H0935	H7126	H0413	H0251	H0853	H4084		

مَنْشَا	وְלְעִינֵי	כָּל-	עֲרַת	בְּנֵי-	יִשְׂרָאֵל	וְהָמָה	בָּכִים	פָּתַח	אֶהָל	מוֹעֵד:
موسیٰ	اور-آنکھوں-میں	ساری-	جماعت	بنی-	اسرائیل	اور-وہ	رو-رے-تھے	دروازے	خیمے	ملاقات
H4872	H3605	H5712	H1992	H3478	H1058	H6607	H0168	H4150		

مدیانی ایک جو گزرا سے وہاں آدمی ایک وقت اسی سے اتفاق لگے۔ رونے کر ہو جمع پر دروازے کے خیمے کے ملاقات جماعت پوری کی اسرائیل اور موسیٰ تھا۔ رہا جا لے گھر اپنے کو عورت

7	וִינָא	פִּינְחָס	בֶּן-	אֶלְעָזָר	בֶּן-	אֶהֱרֹן	הַכֹּהֵן	וַיָּקָם	מִתּוֹד	הַעֲרָה	וַיִּקַּח	רִמָּח
	اور-دیکھا	فینحاس	بن-	اليعزر	بن-	بارون	کابن	اور-اُٹھا	درمیان-سے	جماعت	اور-لیا	برجھی
	H7200	H6372		H0499		H0175	H3548		H8432	H5712	H3947	H7420

بָּרָו:

اپنے-باتھ-میں
[H3027](#)

کریکڑ نیزہ اور نکلا سے جماعت عزرا الی بن فینحاس پوتا کا بارون کر دیکھ یہ

8	וַיָּבֵא	אַחֵר	אִישׁ-	יִשְׂרָאֵל	אֶל-	הַקְּבֵה	וַיִּדְקֹר	אֶת-	שְׁנֵיהֶם	אֶת	אִישׁ	יִשְׂרָאֵל
	اور-گیا	پیچھے	آدمی-	اسرائیل	میں-	خیمے	اور-چھیدا	کو-	دونوں	کو	آدمی	اسرائیل
	H0935	H0376		H3478	H0413	H6898	H1856	H0853	H8147	H0853	H0376	H3478

	וְאֶת-	הָאִשָּׁה	אֶל-	קָבְתָהּ	וַתַּעֲצֹר	הַמִּזְבֵּחַ	מִזְעֵל	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל:
	اور-کو-	عورت	میں-	اُس-کے-پیٹ	اور-رک-گئی	وہا	سے	بنی	اسرائیل
	H0853	H0802	H0413	H6897	H6113	H4046		H3478	

دونوں وہ کہ مارا سے زور اتنے نیزہ کر جا پیچھے پیچھے کے اُن نے فینحاس تو ہوا داخل میں خیمے اپنے سمیت عورت وہ پڑا۔ چل پیچھے کے اسرائیلی اُس گئی۔ رُک وہ سے عمل اِس کے فینحاس لیکن تھی، لگی پھیلنے وہا وقت اُس گیا۔ گزر سے میں

9	וַיְהִי	הַיָּמִים	בְּמִזְבֵּחַ	אֲרֻבָּעָה	וְעֶשְׂרִים	אֶלְפֵי:	פ
	اور-تھے	مرنے-والے	وہا-میں	چوبیس	اور-بیس	ہزار	-
	H1961	H4191	H4046	H0702	H6242	H0505	

تھے۔ چکے مر افراد 24,000 توبھی

10	וַיִּדְבֹר	יְהוָה	אֶל-	מֹשֶׁה	לְאָמַר:
	اور-بولا	یہوواہ	سے-	موسیٰ	کہتے-ہوئے
	H1696	H3068	H0413	H4872	H0559

کہا، سے موسیٰ نے رب

11	פִּינְחָס	בֶּן-	אֶלְעָזָר	בֶּן-	אֶהֱרֹן	הַכֹּהֵן	הַשֵּׁיב	אֶת-	חַמְתִּי	מִזְעֵל	בְּנֵי-	יִשְׂרָאֵל
	فینحاس	بن-	اليعزر	بن-	بارون	کابن	لوثایا	کو-	میرا-غضب	سے	بنی-	اسرائیل
	H6372		H0499		H0175	H3548	H7725	H0853	H2534		H3478	

	בְּקִנְאוֹ	אֶת-	קִנְאָתִי	בְּתוֹכָם	וְלֹא-	כְלִיָּתִי	אֶת-	בְּנֵי-	יִשְׂרָאֵל
	غیرت-مندی-میں-اُس-کے	کی-	میری-غیرت	اُن-کے-درمیان	اور-نہ-	بلاک-کیا-میں-نے	کو-	بنی-	اسرائیل
	H7065	H0853	H7068	H8432	H3808	H3615	H0853	H3478	

بְּקִנְאָתִי:

میری-غیرت-میں
[H7068](#)

کو پوجا کی معبودوں دیگر میں اسرائیل وہ کر اپنا غیرت میری ہے۔ دیا کر ٹھنڈا غصہ میرا پر اسرائیلیوں نے عزرا الی بن فینحاس پوتے کے بارون کیا۔ نہیں نابود و نیست کو اسرائیلیوں نے غیرت میری لئے اِس سکا۔ کر نہ برداشت

12	לָכֵן	אָמַר	הַנְּבִי	נָתַן	לָו	אֶת-	בְּרִיתִי	שְׁלוֹם:
	اِس-لیے	کہ	دیکھو-میں	دیتا-ہوں	اُسے	کو-	میرا-عہد	سلامتی
	H0559	H2009	H5414	H0853	H1285	H7965		

ہوں۔ کرتا قائم عہد کا سلامتی ساتھ کے اُس میں کہ دینا بتا اُسے لہذا

